

## محاورات

لغت کی رو سے محاورہ آپس میں گفتگو اور بات چیت کرنے کو کہتے ہیں مگر اہل زبان کی اصطلاح میں محاورہ دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ”لغوی معنوں“ کے بجائے ”مجازی معنوں“ میں استعمال ہو یعنی اس کا مفہوم اپنے اصل مطلب سے مختلف ہوتا ہے۔

نمبر شمار	محاورات	معانی و مفاہیم	نمبر شمار	محاورات	معانی و مفاہیم
۱	دانت کھٹے کرنا	بے وفائی کرنا	۱۱	لٹیا ڈبونا	برباد ہونا
	دوڑ دھوپ کرنا	کوشش کرنا	۱۲	لوہا منوانا	صلاحیت منوانا
۳	سورج کو چراغ دکھانا	عقل مند کو سمجھانا	۱۳	نود و گیارہ ہونا	بھاگ جانا
۴	رفو چکر ہونا	بھاگ جانا	۱۴	ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا	جلدی میں ہونا
۵	زخموں پر نمک چھڑکنا	دکھ میں اضافہ کرنا	۱۵	ہوا سے باتیں کرنا	تیز دوڑنا
۶	طوطا چشم ہونا	بے مروت ہونا			
۷	عقل پر پردہ پڑنا	عقل سے کام نہ لینا			
۸	قلع قمع کرنا	خاتمہ کرنا			
۹	کان کا کچا ہونا	ہر کسی کی بات مان لینا			
۱۰	گھی کے چراغ جلانا	خوشی منانا			

## ضرب الامثال

ضرب الامثال کے معنی ہیں ”کہاوت“ جبکہ اسے انگریزی میں (Proverb) کہتے ہیں۔ ضرب الامثال اگرچہ چند الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے مگر اس کا مطلب بہت وسیع اور مفصل ہوتا ہے۔ ضرب الامثال انسان کے بہترین یا تلخ تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے۔ محاورات کی طرح ضرب الامثال کے الفاظ بھی اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں۔

نمبر شمار	ضرب الامثال	مفہم
۱	اندھے کے ہاتھ بیڑ	کسی شخص کو اس کی حیثیت یا لیاقت سے بڑھ کر چیز ملنا
۲	ناج نہ جانے آنگن ٹیڑھا	کام نہ آئے مگر حیلے بہانے سے ٹالنا
۳	برے وقت سب آنکھ چراتے ہیں	مصیبت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا
۴	گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے	خطا کار کے ساتھ بے قصور بھی مارا جاتا ہے
۵	رسی جل گئی پر بل نہ گیا	دولت اور عزت جاتی رہی مگر غرور نہ گیا
۶	جس کا کام اُس کو سا جھے	جو کام جانتا ہو وہی کر سکتا ہے
۷	اندھا کیا جانے بسنت کی بہار	ناواقف آدمی اچھی چیز کی قدر نہیں کرتا
۸	چور کی داڑھی میں تنکا	چور خود اپنی پریشانی سے پہچانا جاتا ہے
۹	کام کا نہ کاج کا، ڈٹمن اناج کا	سست اور کاہل انسان جسے کھانے کے سوا کوئی کام نہ ہو
۱۰	کو اچلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا	اپنی اوقات سے بڑھ کر کوئی کام کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی کچھلی حیثیت بھی گنوا دیتا ہے۔